



چرچ ول کے سیلاب زدہ علاقوں کیلئے ڈیزاسٹر ریلیف دستیاب ہے۔

برامپٹن، آن (1 اپریل 2022) – فروری میں چرچ ول کے علاقے میں سیلاب نے جو تباہی مچائی تھی اس کے ردعمل میں، اونٹاریو حکومت برامپٹن کے رہائشیوں اور خاندانوں کی امداد کے لیے [ڈیزاسٹر ریکوری اسسٹینس فار اونٹیریو \(DRAO\)](#) پروگرام کو اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والے رہائشیوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے فعال کر رہی ہے۔

اس ڈیزاسٹر امدادی پروگرام کا اطلاق بنیادی رہائش گاہ اور اس کے بنیادی مواد، چھوٹے کاروباروں، فارم یا غیر منافع بخش تنظیموں پر ہوتا ہے۔ فنڈنگ کی فراہمی ہنگامی ایسے اخراجات اور ضروری املاک کی مرمت یا تبدیلی کی لاگت کے لیے ہو گی، جو انشورنس میں شامل نہیں ہیں۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نجی انشورنس فراہم کنندگان سے کوریج اور اخراجات کا جائزہ لینے کے لیے بات کریں۔

درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ بروز جمعہ 29 جولائی 2022 ہے۔

اہلیت اور کوریج کے بارے میں مزید معلومات، علاقے کا نقشہ اور رہنماء ہدایات ontario.ca/disasterassistance پر مل سکتی ہیں۔

سیلاب سے حفاظت

موسم بہار کے آگے بڑھنے کے ساتھ درجہ حرارت میں اضافے کی توقع کو مدنظر رکھتے ہوئے، رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بدلتے ہوئے موسمی حالات اور ان کے مطابق اپنی جائیداد کی نگرانی جاری رکھیں۔

سیلاب کی صورت میں آپ کی تیاری کو یقینی بنانے کے لیے آپ کچھ اقدامات کر سکتے ہیں۔ کیچ بیسن اور ڈاون سپاؤٹس سے کھر قسم کے اضافی ملے کو صاف کریں تاکہ بارش، پگھلتی ہوئی برف اور برفانی پانی آزادانہ طور پر بہہ کر کہیں جا سکیں۔

اگر سیلاب آ جاتا ہے:

- کبھی بھی اس وقت بجلی بند کرنے کی کوشش نہ کریں، جب آپ کو ایسا کرنے کے لیے پانی سے گزرنا پڑتا ہو۔ بجلی بند کرنے کے لیے ہائیڈرو ون برامپٹن (Hydro One Brampton) سے رابطہ کریں۔
- کبھی بھی ایسے کمرے میں قدم نہ رکھیں جہاں پانی بجلی کے اوٹ لیٹس، آلات یا ڈوریوں وغیرہ میں موجود ہو۔
- 3-1-1 پر کال کر کے یا 311@brampton.ca پر ای میل کر کے پانی کے غیر معمولی طور پر جمع ہونے کی اطلاع دیں (مثلاً رہائشی سڑکوں پر پانی کے بڑے تالاب بن جانا)۔

سیلاب ختم جانے کے بعد:

- پہچوندی لگنے اور پانی کے رساؤ سے جڑے طویل مدتی خطرات سے بچانے کے لیے اپنے گھر/پراپرٹی کی مناسب صفائی کو یقینی بنائیں۔
- سیلاب زدہ سڑکوں پر نہ چلیں اور نہ ہی گاڑی چلائیں۔ پانی جمع ہونے سے گلیوں اور فٹ پاتھوں کی حفاظت متاثر ہو سکتی ہے۔



تیار رہیں

- خطرات کو جانیں اور ان خطرات سے آگاہ رہیں جو آپ کے گھر کو متاثر کر سکتے ہیں۔
- ایک ہنگامی منصوبہ بنائیں جس سے آپ کا پورا گھرانہ بھی واقف ہو۔
- بنیادی سامان کے ساتھ ایک ہنگامی کٹ بھی تیار کریں جو آپ کو کم از کم 72 گھنٹے تک مدد دے سکے۔
- اپنے انشورنس فراہم کنندہ سے بات کریں اور یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس مناسب کوریج موجود ہو۔

برامپٹن کے ایمرجنسی مینجمنٹ آفس کی جانب سے مزید معلومات اور سیلاب سے بچاؤ کی تجاویز کے لیے Brampton.ca/prepared ملاحظہ کریں اور ٹویٹر پر انہیں بذریعہ [@BEMOprepared](https://twitter.com/BEMOprepared) فالو کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca